

ہمسائیگی اور آپس کے بہتر تعلقات

VEÏNATGE | CONVIVÈNCIA

Bon dia - Bona tarda - Bona nit

صبح کا سلام - شام کا سلام - رات کا سلام

Com va? - Com anem? - Com es troba? - Tot va bé?

کیا سب ٹھیک ہے؟ - کیسا جا رہا ہے؟ - کیسے جا رہے ہیں؟ - کیا حال ہے؟

Com està la família (el pare, la mare, el fill, la filla, el germà, la germana)?

آپ کی فیملی (والد، والدہ، بیٹا، بیٹی، بھائی، بہن) کا کیا حال ہے؟

Bé, gràcies - Molt bé, gràcies

بہت اچھے، شکریہ - ٹھیک، شکریہ

I tu? - I vostè? - I la teva/seva família?

اور تمہاری فیملی؟/اور آپ کی فیملی؟ - اور آپ؟ - اور تم؟

També molt bé, gràcies

وہ بھی ٹھیک ہیں! شکریہ

T'he de demanar un favor... - Li he de demanar un favor...

مجھے آپ سے کوئی کام ہے... - مجھے تمہارے ساتھ کوئی کام ہے...

Tu diràs, digue'm - Vostè dirà, digui'm

جی کہو - جی فرمائیے

Em pots dir... - Em pot dir...

کیا مجھے بتا سکتے ہو؟ - کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟

On és... - Com anar a...

وہاں کیسے جاتے ہیں؟ - کہاں ہے؟

Quin autobús he d'agafar per anar a...

وہاں جانے کے لیے مجھے کوئی بس پکڑنی ہوگی؟

L'adreça de...

وہاں کا ایڈریس کیا ہے؟

Com es diu... - Com s'escriu...

اس کا نام کیا ہے؟ - اس کو کیسے لکھتے ہیں؟

Em pots ajudar a... - Em pot ajudar a...

کیا آپ اس بارے میں مدد کر سکتے ہیں؟

Gràcies - Moltes gràcies

شکریہ - بہت شکریہ

A pujar - A baixar - A portar

لیجانے کیلئے - اترنے کیلئے - چڑھنے کیلئے

Gràcies per la informació

معلومات کا شکریہ

Si us plau - Si és possible

اگر آپ کر سکتے ہیں تو - براہ کرم

Gràcies per l'ajuda

مدد کا شکریہ

De res - No ha estat res - A disposar

آپ کی خدمت میں - یہ تو کچھ بھی نہیں تھا - کوئی بات نہیں

Perdona'm - Perdoni'm

مجھے معاف کیجیے گا - مجھے معاف کرا

Disculpi les molèsties

زحمت پر معذرت

No era la meva intenció

میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا

Ho he fet sense voler

میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا

Ha estat un error

یا ایک غلطی تھی

Puc passar?

کیا میں گزر سکتا ہوں؟

Sí, endavant - No, esperi's un moment

جی نہیں ایک منٹ رکیے - جی آئیے

Li prego que...

میری آپ سے درخواست ہے کہ----

مشترکہ پبلک مقامات کے بہتر استعمال اور ان کی حفاظت کے بارے میں مشورے

CONSELLS PER AL BON ÚS I LA SEGURETAT DELS ESPAIS COMUNS

سبز حیوں اور مشترکہ استعمال کی گہوں کی صفائی کے بارے میں تعاون کرنا چاہیے۔

اگر ہمارے پر گھریلو جانور ہیں، ہمیں اس بارے میں خیال کرنا چاہیے کہ وہ کسی اور کو تکلیف بھی دے سکتے ہیں اور ہمارے جانور جب گلی میں پیٹا ب وغیرہ کریں تو اس کی صفائی بھی کرنی چاہیے۔

فضول اشیاء کو ایسے ہی نہیں پھینک دینا چاہیے کیونکہ ان کی وجہ سے کوئی بندہ پھسل کر گر سکتا ہے۔

بہت زیادہ شور سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، خصوصی طور پر آرام کے وقت۔

ہمیں مشترکہ استعمال کی جگہوں، لفٹ اور سبز حیوں پر کسی قسم کی لکھائی نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی ان کو خراب کرنا چاہیے۔

ہمیں اپنے بچوں کے بارے میں بھی دھیان رکھنا چاہیے تاکہ ان کا کوئی کام ان کے لیے خطرناک یا کسی ہمسائے کے لیے تکلیف دہ نہ ہو۔ گلی میں بچوں کی حفاظت کے لیے ان کی نگرانی لازمی ہے۔

لفٹ استعمال کرنے کے ضابطہ کا بھی احترام کرنا چاہیے خاص کر اس کے اندر سوار ہونے والے افراد کی تعداد اور وزن۔

بیرونی دروازہ ہر وقت بند رہنا چاہیے اور اس کو کسی اجنبی کے لیے نہیں کھولنا چاہیے

مکانوں کی چھتوں پر بہت زیادہ وزن نہیں ڈالنا چاہیے ممکن ہے کہ وہ اتنا وزن برداشت نہ کر سکتی ہوں۔

گھر میں تعمیر یا مرمت کے کام کسی پروفیشنل سے مشورہ کے بغیر نہیں کرنے چاہئیں، ممکن ہے کہ ایسا کرنے سے بلڈنگ کے تعمیراتی ڈھانچے میں کوئی نقص آجائے۔

اپنے گھر کے گملوں اور پودوں میں پانی رات کے وقت ڈالنا چاہیے جس وقت لوگوں کی آمد و رفت کم ہو، اور گیلے کے میچا یک پلیٹ رکھنا بھی اچھا کام ہے۔

کوڑا کرکٹ کے تھیلوں کو اچھی طرح بند کر کے کنٹینرز کے اندر پھینکنا چاہیے۔ اگر آپ کسی تنگ گلی میں رہتے ہیں اور وہاں کنٹینرز نہیں ہے تو آپ کو چاہیے کہ شام 8 بجے سے پہلے **escombraries** نیچے مت لائیں۔

بالکونی یا گھر کی باریوں سے کبھی بھی کوئی چیز یا جلے ہوئے سیگریٹ نیچے مت پھینکیں کیونکہ اس سے کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے۔

تولیوں اور تالینوں کو گلی میں مت جھاڑیں اس کام کے لیے گھر کی چھت کو استعمال کریں۔

ہمیں گلی میں گئی ہوئی کوڑے کی ٹوکریوں کو بھی استعمال کرنا چاہیے جو کہ ہر گلی میں موجود ہوتی ہیں۔ ایک صاف ستھری گلی میں چلنا زیادہ اچھا لگتا ہے۔

اسی طرح ہمیں گلی میں چھوکنے کے بارے بھی احتیاط کرنی چاہیے۔

گرین زون (پارک وغیرہ) اور شہری سامان (بلدیہ کی طرف سے لگائی گئی چیزیں) کی بھی حفاظت کرنی چاہیے کیونکہ ان کا خرچہ ہم سب مل کر ہی دیتے ہیں۔

ہمیں چاہیے کہ گاڑی پارک کرنے کے لیے صرف اجازت شدہ جگہ کو ہی استعمال کریں۔ اس سے گزرنے والوں کو آسانی ہوگی۔

ہمیں گاڑی کے ہارن کے استعمال پر بھی احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ یہ بہت تنگ کرتا ہے۔

رات کے وقت دوسروں کے آرام کا خیال کرنا چاہیے اور گلی میں شور نہیں کرنا چاہیے۔